



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون، ساتویں راؤنڈ کے پہلے روز کا اختتام

کراچی، 8 دسمبر 2020ء:

نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں بلوچستان کی ٹیم سدرن پنجاب کے خلاف پہلے روز کھیل کے اختتام پر مشکلات سے دوچار ہے۔ فاسٹ بولر عامر یامین کے تباہ کن اسپیل کی وجہ سے بلوچستان کی ٹیم کا ٹاپ آرڈر پولین لوٹ چکا ہے۔ بلوچستان کے 4 کھلاڑی محض 16 رنز پر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ عامر یامین نے 4 اوورز میں صرف 4 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو پولین بھیجا۔ ایک وکٹ محمد الیاس نے حاصل کی۔ عمید آصف 3 اور تیمور علی صفر پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ عظیم گھمن صفر، عمران فرحت تین، علی وقاص اور اکبر الرحمان ایک ایک رن پر آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل سدرن پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 256 رنز بنا کر ٹیم آل آؤٹ ہو گئی۔ سدرن پنجاب کی جانب سے سلمان علی آغا نے 50، زین عباس نے 40 جبکہ محمد عمران اور سیف بدر نے 24، 24 رنز بنائے۔ بلوچستان کی جانب سے تاج ولی نے تین، عمید آصف، کاشف بھٹی اور جلات خان نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلے جا رہے میچ میں سنٹرل پنجاب نے پہلے روز کھیل کے ختم ہونے پر بغیر کسی نقصان کے 49 رنز بنا لیے ہیں۔ محمد اخلاق 25 رنز پر ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے، انکے دائیں ہاتھ کی انگلی گیند لگنے سے متاثر ہوئی۔ علی زریاب 22 اور بلاول اقبال دو رنز پر بیٹنگ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ناردرن کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 57 اوورز کے کھیل میں 243 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آصف علی نے جارحانہ اننگز کھیلی انہوں نے 39 گیندوں پر نو چوکوں اور 5 چھکوں کے ساتھ ناقابل شکست 72 رنز بنائے محمد نواز نے 97 گیندوں پر 6 چوکوں کی مدد سے 50 رنز بنائے۔ حماد اعظم 47 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ناردرن کی پہلی پانچ وکٹیں 63 رنز پر گر چکی تھیں۔ سنٹرل پنجاب کے کپتان حسن علی نے 48 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں۔ بلاول اقبال نے تین اور احمدصافی نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کے پہلے روز کے اختتام پر خیبر پختونخواہ نے بغیر کسی نقصان کے 5 رنز بنائے ہیں۔ اسرار اللہ صفر اور مصدق احمد تین رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ اس سے قبل میچ میں خیبر پختونخواہ نے بولنگ کرنے کا انتخاب کیا اور سندھ کی ٹیم کو 81.2 اوورز میں صرف 229 رنز تک محدود رکھا۔ کپتان اسد شفیق 60 اور بائیں ہاتھ کے اوپنر شرجیل خان 57 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ عمیر بن یوسف اور حسن محسن نے ، 24، 24 سعود شکیل نے 19 اور سعد خان نے 17 رنز بنائے دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر عرفان اللہ شاہ نے 33 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں۔ ساجد خان نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4